

کان کی حفاظت

کے بارے میں سوچ کو بدلیں

کان کی میل

تصور:
صاف کرنی چاہیے 1

حقیقت:
کان خود بخود صاف ہو جاتے ہیں

کان کا درد

تصور:
گھریلو ٹولے استعمال کریں

حقیقت:
کسی ماہر سے مشورہ کرنا چاہیے

روئی کی کلیاں

تصور:
کان کے لیے اچھے ہیں

حقیقت:
کان کے لیے نہیں ہیں

کان کا بہنا

تصور:
معمولی تکلیف

حقیقت:
ایک فوری مسئلہ